

Passage 8

Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expression:

زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لحاٹ بھی آتے ہیں جب انسان بالکل ناامید ہو جاتا ہے۔ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اس کے مقابلے کی سکت ہو جاتی ہے۔ یہ بات انسان کی عظمت کے خلاف ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ اس عزم و ہمت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی جو صلہ نہ مارے بلکہ ہمت سے کام لے اور روانہ دار ناکامیوں کا مقابلہ کرے۔ اور

ebb and flow اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش پر یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔

In ups and downs of life, there comes the moments when man becomes hopeless.

Darkness appears to him on every side. He loses the power to compete, but these things are against the honour of man. All the progress in the world is the result of courage and determination given to man by Allah Almighty. A man should never lower his spirits but should work with courage, and should face failures with manliness.

Satisfactory
7.10

He must have firm belief in mercifleness and beneficence of Allah. Allah never disappoints any such person.